

## JUZ VI

148. Allah coa lok ucapan kidek ngen terus te'ang, kecuali tun-tun der aniayo. Allah maha temi'uk Maha namen.
- ﴿ لَا تُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا ﴾
149. Ami udi kemten kebaik atau munyin atau maafkan suatu kesaleak (tun luyen) mako sesungguak ne Allah maha pemaaf Maha kuaso.
- ﴿ إِنَّ تُبَدُّوا حَيْرًا أَوْ تُخَفُّوهُ أَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفْوًا قَدِيرًا ﴾
150. Tun-tun kafia magea Allah ngen Rasul Ne, bermaksud membedakan antaro keimanan magea Allah ngen Rasul Ne ngen madeak: keme berimen magea sebagian dan keme kafia magea sebagian de luyen, serto bermasud mok dalen nak antaro de awei o (imen atau kafia).
- ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴾
151. Tobo o ba tun-tun de kafia sebenea-benea ne, keme bi semdiyo utuk tun-tun de kafia o sikso de menghino.
- ﴿ أُولَٰئِكَ هُمُ الْكٰفِرُونَ حَقًّا ۖ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَٰفِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ﴾
152. Tun-tun de berimen magea Allah ngen Rasul Ne ngen coa m'bedakan dikup tun nak antaro tobo o, sudo yo Allah bakea mlei ngen tobo o pahalo. Allah adeba Maha pengampun Maha penyayang.
- ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ أُولَٰئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أَجْرَهُمُ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴾
153. Ahli kiteb minoi magea Udi supayo udi temu'un kiteb magea tobo o kunei lenget, mako sesungguak ne tobo o bi minoi ngen Musa de lbiak lai kunei o. Tobo o madeak kenten ba Allah magea keme ngen nyato. Mako tobo o seni'mbar petir kerno kezaliman ne, tobo o sembeak anak sapai. Sesudo sapei magea tobo o bukti-bukti de nyato. Sudo keme maafkan kunei de awei o, sesudo keme mlei magea Musa keterangan de nyato.
- ﴿ يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنْ تُنزِلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِّنَ السَّمَاءِ ۖ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَىٰ أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصَّعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ۚ ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ فَعَفَوْنَا عَنِ ذَلِكَ ۖ وَءَاتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطٰنًا مُّبِينًا ﴾

154. Bi naket keme minas ulau tobo o tebo Thursina utuk temimo janjai tobo o. Keme mriteak magea tobo o masuk ba gerbang o samo sujud, keme mriteak kulo tobo o jibeak ba udi mlangea tentang aturan bilai sabtu. Keme bi mok kunei tobo o janjai de kukuak.
- وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمْ ادْخُلُوا  
الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا  
مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴿١٥٤﴾
155. Mako keme (keme mnea ngen tobo o beberapa tindakan) kerno tobo o mlangea aturan o, kerno kafia tobo o magea keterangan-ketreangan Allah, tobo o munuak Nebai-nebai coa de alasan de bnea ngen madeak "atei keme bi tutup" sebenea ne Allah bi kemucai matei atei tobo o kerno kafia ne, kerno tobo o coa berimen kecuali sebagian didik.
- فِيمَا نَقَضُوا مِيثَاقَهُمْ وَكُفِّرُوا بَعَائِنَ اللَّهِ وَقَتَّلُوا  
الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقِّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ  
عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿١٥٥﴾
156. Kerno kafia tobo o (magea Isa) ngen temuduak tobo o magea Maryam ngen dusta lai (zina)
- وَكُفِّرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَنًا عَظِيمًا ﴿١٥٦﴾
157. Keme mukum kulo kerno kecek tobo o, sesungguakne keme bi munuak Almasih Isa anak Maryam Rasul Allah. Padahal tobo o coa munuak ne coa kulo semalib ne, tapi de nunuak tobo o ade ba tun de senrupo ngen Isa. Sesungguak ne tobo o selisiak pendapat tentang munuak Isa. Selalu lem ragau-ragau tentang de nunuak o, tobo o bnea-bnea coa namen (api sebenea) de nunuak o, luyen kunei temotoa persangko bae, ijai tobo o coa yakin bi munuak ne.
- وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ  
وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ  
اِخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا  
اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا ﴿١٥٧﴾
158. Tapi Allah sudo maket Isa moi hadirat ne, Allah maha perkaso Maha bijaksano.
- بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿١٥٨﴾
159. Coa gen dikup tun nak antaro ahli kiteb de coa berimen magea Isa ayok matei ne. Pado bilai kiamat Isa bakea ijai seksai tobo o.
- وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ  
وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِدًا ﴿١٥٩﴾

160. Kerno kezaliman tun-tun yahudi, keme haramkan bagai tobo o ucapan de baik-baik de pernah halal, kerno tobo o cet menghalang tun luyen kunei dalen Allah
- فَيُظَلَمِ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَمًا عَلَيْهِمْ طَبِيتِ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ﴿١٦٠﴾
161. Kerno tobo o mnea riba, padahal sungguak tobo o bi ten-geak, tobo o muk harto tun ngen ca'o coa seak. Keme semdiyo utuk tun-tun kafia nak antaro tobo o azab de pelgiak.
- وَأَحْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ بُوِيَ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۗ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٦١﴾
162. Tapi tun-tun de ilemau ne nak antaro tobo o dan tun-tun berimen. Tobo o berimen magea al-Qur'an de tenu'un magea ko (Muhammad) ngen magea kiten de tenu'un ayok nu. Awei o kulo tobo o kemrejo sholat ngen kemluwea zakat, berimen magea Allah ngen bilai kiamat, ma-gea tobo o keme mlei pahalo de lai.
- لَيْكِنَ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ۗ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ ۗ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ أُولَئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١٦٢﴾
163. Sesungguak ne keme mewahyukan magea ko (Muhammad) awei pe keme bi mewahyukan magea Nuh, ngen nebai-nebai susudoh ne, keme sudoh mewahyukan kulo magea Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, anok pau ne: Isa, Ayyub, yunus, Harun dan Sulaiman. Keme bi mlei kiteb zabur magea Daud.
- ﴿ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ ۗ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ ۗ وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا ﴿١٦٣﴾
164. Ade beberapa Rasul de bi knisah keme magea ko ayok ne ade beberapa Rasul (luyen) de coa keme kisah ngen ko. Dan magea Musa, Allah berfirman langsung.
- وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ ۗ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا ﴿١٦٤﴾
165. Rasul-rasul o ade ba sebagai mbin berita gembira ngen mlei pringatan, supayo coa ade alasan bagai manusio utuk m'bantah Allah sesudah rasul-rasul o nutus. Allah maha perkaso Maha bijaksana.
- رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿١٦٥﴾

166. Tapi Allah jijai seksai das (al-Qur'an) de tenu'un magea ko (Muhammad) si tenu'un ne ngen ilmu ne dan dau malaikat pun menyaksikan. Cukup ba Allah de jijai seksai. لَٰكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ ۗ وَالْمَلٰٓئِكَةُ يَشْهَدُونَ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا ﴿١٦٦﴾
167. Sesungguak ne tun-tun de kafia de menghalang (tun luyen) kunei dalen Allah bnea-bnea sesat se uak-uak ne. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا ضَلًّا بَعِيدًا ﴿١٦٧﴾
168. Sesungguak ne tun-tun de kafia ngen mnea zalim, Allah coa bakea mapun tobo o coa kulo bakea temunjuk magea dalen de lu-us ne. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا ﴿١٦٨﴾
169. Kecuali dalen tobo o moi nerako jahannam, tobo o btea nak lem ne selamo-lamo ne. Awei o mudeak bagai Allah. إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۗ وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَىٰ اللَّهِ يَسِيرًا ﴿١٦٩﴾
170. Hai manusio, sesungguak sungguak bi neko Rasul (Muhammad) magea udi ngen mbin kebenea kunei tuhan udi, mako berimen ba, do o lebiak baik bagai udi. Ami udi kafia (do o coa mrugai Allah didik pun) kerno sesungguak ne Allah tem'uan jano de nak lenget ngen jano de nak bumai. Allah Maha namen Maha bijaksano يَتَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِن رَّبِّكُمْ فَفَآمِنُوا خَيْرًا لَّكُمْ ۗ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١٧٠﴾
171. Hai ahli kiteb, jibeak ba udi mlipeu batas lem agamo udi, jibeak ba udi madeak Allah kecuali de bnea, sungguak Almasih Isa anak Maryam o adeba utusan Allah (de jenijai ngen) kaliamt-kalimat Ne. De snapei ne magea Maryam, jibaeak ba udi madeak (tuhan o) telau, sudo ba (kunei kecek o) do o lebiak baik bagai udi. Sesungguak ne Allah Tuhan Yang Maha Esa, Maha Sucai kunei anggapan de ade anak. Jano de nak lenget ngen jano de nak bumai, cukupba Allah jijai pelindung. يَتَأَهَّلَ الْكِتٰبِ لَا تَعْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَىٰ اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ ۗ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُوْلٌ بِاللَّهِ وَكَلِمَتُهُ ۗ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوْحٌ مِّنْهُ ۗ فَفَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ۗ وَلَا تَقُولُوا ثَلٰثَةٌ ۗ اٰنْتَهُوْا خَيْرًا لَّكُمْ ۗ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهُ وَوَاحِدٌ ۗ سُبْحٰنَهُ أَنْ يَكُوْنَ لَهُ وَلَدٌ ۗ لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴿١٧١﴾

172. Al-Masih samo sekilai coa segan jijai hamba Allah, awei o kulo malaikat de paling paok magea Allah. Api de segan sembeak Si ngen ombong dirai mako Allah bakea kmopoa tobo o kute magea Si.
- لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ<sup>٤</sup> وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا ﴿١٧٢﴾
173. Ade pun tun-tun de berimen ngen kemrejo kebaik, Allah bakea sempurno ngen pahalo ngen tema'beak bagian kurnia Ne. Sedang tun-tun de segan sembeak Allah ngen ombong dirai mako Allah bakea mazab tobo o ngen azab de pelgiak. Tobo o coa dapet pelindung ngen petulung seluyen Allah.
- فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِّنْ فَضْلِهِ<sup>٥</sup> وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَخُذُونَ لَهُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿١٧٣﴾
174. Hai manusio sesungguak ne bi sapei magea udi bukti kebenea tuhan udi (Muhammad ngen Mukjizat ne) bi sudo kulo keme temu'un ko cayo te'ang (al-Qur'an)
- يَتَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُم بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا ﴿١٧٤﴾
175. Adepun Tun-tun de berimen magea Allah ngen pegong teguak magea agamo Ne, mako Allah bakea masukkan tobo o milem Rahmat ngen kurnia Ne (sergo) ngen temunjuk dalen de lu-us magea si.
- فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمًا ﴿١٧٥﴾
176. Tobo o minoi fatwa magea ko (masalah kalalah) kadeak ba Allah mlei fatwa magea ko masalah kalalah adeba ami tun matei ngen coa ade anak tapi ade saudara slawei , mako bagian ne (saudaro slawei o )seperdwai kunei harto de teningea ne, saudaro ne de smanei mewaris (seluruh harto saudaro slawei) ami si coa ade anak. Tapi ami saudara slawei o tun dwai mako bagian kadwai ne dwai pertelau kunei harto de teningea. Ami tobo o (ahli waris o) saudaro-saudaro smanei ngen slawei, mako bagian do saudaro smanei samo ngen dwai bagian slawei. Allah tem'ang (ukum yo) magea udi supayo udi coa sesat, Allah Maha namen kute-kute ne.
- يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ<sup>٦</sup> إِنْ أَمْرٌ أَلْهَكَ لَيْسَ لَهُ وَاوَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ<sup>٧</sup> وَهُوَ بِرِثَتِهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَاوَدٌ<sup>٨</sup> فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ<sup>٩</sup> وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ<sup>١٠</sup> يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضَلُّوا<sup>١١</sup> وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٧٦﴾